

106043- بیوی سے کہا: اگر تم نے فلان عورت سے کلام کی تو تم مجھ پر حرام

سوال

بیوی اور میرے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں نے بیوی کو کہا: اگر تم فلان عورت سے بات کرو گی تو تم مجھ پر حرام، اور یہ صرف ایک دھمکی تھی، اس کے بعد اس عورت نے میری بیوی کو فون کیا لیکن اسے علم نہ تھا اس کے متعلق میرا کیا موقف ہوگا؟

کیا یہ ظہار شمار ہوگا یا طلاق؟ یا کہ قسم کا کفارہ لازم آئے گا کیونکہ میں نے نہ تو ظہار کا ارادہ کیا تھا اور نہ ہی طلاق کا؟

پسندیدہ جواب

جب خاوند اپنی بیوی کو کہے: تم مجھ پر حرام، اور اس نے اس کا مقصد نہ تو طلاق ہو اور نہ ہی ظہار تو اہل علم کی کلام میں راجح یہ ہے کہ اس کا حکم قسم والا ہوگا، اور اس سے نہ تو طلاق ہوگی اور نہ ہی ظہار

اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر (81984) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔

اس بنا پر جب آپ کی بیوی نے اس عورت سے کلام کی تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، قسم کے کفارہ کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے آپ سوال نمبر (45676) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم۔